

## سوال

کیا سر منڈوانا سنت ہے؟

## پسندیدہ جواب

الحمد لله.

علماء کرام کی کلام سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ سر منڈانے کی چھ انواع و اقسام ہیں:

پہلی قسم:

اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سر منڈانا، اس میں انسان کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور یہ صرف چار موقعوں پر ہے اس کے علاوہ پانچویں بھی نہیں وہ پانچ مقام درج ہیں:

1 - حج کے موقع پر.

2 - عمرہ کرنے کے بعد:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے سر منڈانے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے چین کے ساتھ نڈر ہو کر الفتح (27).

3 - بچے کی ولادت کے ساتویں روز بچے کا سر منڈانا، اس کی دلیل ترمذی شریف کی درج ذیل حدیث ہے:

علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک بکری ذبح کی اور فرمایا:

"اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! سکا سر مونڈو، اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو"

سنن ترمذی حدیث نمبر ( 1439 ) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر ( 1226 ) میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور مزید تفصیل کے لیے ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب: تحفة المودود صفحہ نمبر ( 217 ) بھی دیکھیں۔

4 - جب کافر شخص مسلمان ہو تو اپنا سر منڈائے، اس کی دلیل ابو داؤد کی درج ذیل حدیث ہے:

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان ہونے والے کافر شخص کو فرمایا:

" تم اپنے آپ سے کفر کے بال اتارو اورختنہ کراؤ "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر ( 356 ) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور مزید تفصیل کے لیے المغنی ابن قدامہ ( 1 / 276 ) اور شیخ الاسلام کی شرح العمدة ( 1 / 350 ) بھی دیکھیں۔

علماء رحمہ اللہ اس پر متفق ہیں کہ ان چار مواقع کے علاوہ سر منڈانا مستحب نہیں۔

دیکھیں: الاستقامة للشيخ الاسلام ابن تيمية ( 1 / 256 )۔

دوسری قسم:

شرك، سرمنڈانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرك ہوگا۔

اور یہ اس وقت ہے جب غیر اللہ کے لیے عاجزی و تذلل کی غرض سے سر منڈایا جائے۔

ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں:

" جیسا کہ مرید اپنے پیروں کے لیے قسم اور حلف اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں: میں فلان کے لیے سر منڈاؤنگا، اور آپ

نے فلان کے لیے سر منڈایا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہیں کہ: میں فلان کے لیے سجدہ کرونگا، اس لیے کہ سر منڈانا خضوع و عاجزی و انکساری اور عبودیت اور ذل میں شامل ہے اسی لیے یہ حج کی تکمیل میں شامل ہوا....

کیونکہ اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی و انکساری اور اس کی عزت کے سامنے پیشانی کو رکھنا بلیغ ترین عبودیت میں سے ہے، اسی لیے جب عرب کسی قیدی کو ذلیل کرنا چاہتے تو وہ اس کا سر مونڈ کر چھوڑ دیتے... الخ

تیسری قسم:

بدعت مکروہہ:

یعنی سر منڈانا مکروہ بدعت ہے، اور اس کی کئی ایک صورتیں ہیں:

ان چار مواقع کے علاوہ تعبد اور تدین کے طور پر سر منڈانا، مثلاً اگر سر منڈانا صالحین کی نشانی بنا دی جائے، یا پھر زہد کے اتمام میں شامل ہو، اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے خوارج کیا کرتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے بارہ وارد ہے کہ آپ نے فرمایا:

" ان کی علامت سر منڈانا ہو گی "

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 7007 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1763 ).

امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم:

" ان کی علامت سر منڈانا ہو گی "

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زینت اور بناؤ سنگھار ترک کرنے کی بنا پر ان کی یہ علامت قرار دی، اور ان کا شعار قرار دیا تا کہ وہ اس کے ساتھ پہچانے جائیں، اور یہ ان کی جہالت ہے.... اور اللہ کے دین میں نئی چیز اور بدعت ہے جو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی خلفاء راشدین اور ان کے اتباع میں پائی جاتی تھی "

دیکھیں: شرح العمدة ( 1 / 231 ) اور مجموع الفتاوی ( 21 / 118 ).

اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ: بعض لوگ تو بہ کرنے والے کے معاملہ میں اس سر منڈانا بھی شامل کرتے ہیں، جو کہ بدعت ہے، نہ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا کیا، اور نہ ہی تابعین عظام میں سے کسی نے کیا، اور نہ ہی مسلمان آئمہ کرام میں سے کسی ایک نے "

دیکھیں: مجموع الفتاوی ( 21 / 118 ).

چوتھی قسم:

یہ حرام ہے، اور اس کی کئی ایک صورتیں ہیں:

1 - کسی قریبی رشتہ دار وغیرہ کی موت کی مصیبت کے وقت سر منڈانا.

ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

" بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت آہ و بکا کرنے والی، اور مصیبت کے وقت سر منڈانے والی، اور مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑنے والی سے بری ہیں "

صحیح مسلم حدیث نمبر ( 149 ) .

الحالقة وہ عورت ہے جو مصیبت کے وقت اپنے بال منڈوائے .

الصالقة: وہ عورت جو مصیبت کے وقت مختلف قسم کی آوازیں بلند کرے .

اور الشاققة: وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑے .

ابن حجر رحمہ اللہ نے " الزواجر عن اقتراف الكبائر " میں ذکر کیا ہے کہ:

" ایک سو سترواں ( 117 ) کبیرہ گناہ یہ ہے کہ: مصیبت کے وقت بال منڈائے جائیں .

ان کا کہنا ہے: کیونکہ یہ ناراضگی کی علامت اور شعار ظاہر کر رہا ہے، اور تقدیر پر عدم رضا کی علامت ہے . اھ

2 - کفار یا فاسق قسم کے افراد جو اپنا سر منڈانے میں مشہور ہیں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے سر منڈایا جائے، اور بعض اوقات وہ اس پر کوئی معین تیل لگاتا ہے تا کہ وہ بھی ان کی طرح لگے، یا پھر سر کے دونوں جانبوں سے بال چھوٹے، اور درمیان سے لمبے کرائے، تو یہ سب مشابہت حرام ہے، اور سیدھی راہ سے انحراف ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سلامتی و عافیت طلب کرتے ہیں .

اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے:

" جو کوئی بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر ( 4031 ) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر ( 3401 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے .

القاری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" یعنی جس نے بھی اپنے آپ کو کفار یا فاسق یا فاجر لوگوں کے مشابہ بنایا تو وہ انہی میں سے ہے " یعنی گناہ میں ان کی طرح ہے . اھ

پانچویں قسم:

مباح ہے، وہ یہ کہ کسی ضرورت کے پیش نظر سر منڈایا جائے، مثلاً بیماری سے علاج کے لیے، یا پھر جوئیں وغیرہ ختم کرنے کے لیے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" کتاب و سنت اور اجماع کے ساتھ یہ جائز ہے " اھ

دیکھیں: مجموع الفتاوی ( 12 / 117 ) .

چھٹی قسم:

بغیر کسی ضرورت و حاجت اور مندرجہ بالا اسباب کے بغیر سر منڈایا جائے۔

اس کے حکم میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، بعض علماء کرام تو اسے مکروہ سمجھتے ہیں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اہل بدعت یعنی خوارج کی علامت ہے جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں بیان ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے:

" جس کسی نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے "

اور بعض علماء کرام اسے مباح قرار دیتے ہیں، انہوں نے درج ذیل احادیث سے استدلال کیا ہے:

ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ:

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے تین روز بعد آل جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور نائی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ جعفر کے بیٹوں کے سر مونڈ دے "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر ( 4192 ) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو حدیث نمبر ( 3532 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا ہوا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" سارا سر مونڈو یا پھر سارا چھوڑ دو "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر ( 4195 ) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر ( 3535 ) میں اسے صحیح

قرار دیا ہے، لیکن ان دونوں احادیث سے بغیر کسی ضرورت کے سر مونڈنے کے جواز پر استدلال کرنا محل نظر ہے:

اول:

کیونکہ یہاں کسی ضرورت کی بنا پر سر مونڈا گیا ہے، تو اس طرح یہ مباح ہو گا، اور یہاں ضرورت و حاجت یہ ہے کہ بچوں کے سر میں بڑوں کی بنسبت جوئیں پڑنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سروں میں رطوبت و مٹی اور گرد زیادہ پڑتی ہے۔

دیکھیں: زاد المعاد ( 4 / 159 ) .

دوم:

یہ چھوٹے بچے کے حق میں ہے، اور بچے کے لیے اس کی اجازت ہے جو بڑے کے لیے اجازت نہیں۔

دیکھیں: حاشیۃ السندي علی النسائی. اور مجموع الفتاوی ( 21 / 119 ) اور شرح العمدة ( 1 / 230 ) .

اس پانچویں قسم میں یہ اختلاف اس لیے ہے کہ آیا سر منڈانا مکروہ ہے یا کہ مباح، یا کہ افضل؟

تو افضل یہ ہے کہ سر نہ منڈایا جائے، الفاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: افضل یہ ہے کہ عمرہ اور حج کے علاوہ سر نہ منڈایا جائے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اھ

ماخوذ از: عون العبود ( 11 / 248 ) .

واللہ اعلم .